



الْحَجِّجِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اے لوگو ڈرو اپنے رب سے۔ بیشک قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾

جس دن تو اسکو دیکھے گا بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جسکو وہ دودھ پلاتی ہے۔ اور گر ادیگی ہر حمل والی اپنے حمل کو۔ اور تو دیکھے گا لوگوں کو مدہوش حالانکہ نہیں ہوں گے وہ مدہوش بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔

يَوْمَ تَرُوهَا تَدْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكَرَى وَ مَا هُمْ بِسُكَرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢﴾

اور لوگوں میں وہ ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور پیروی کرتا ہے ہر شیطان سرکش کی۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ﴿٣﴾

لکھ دیا گیا ہے جس کے بارے میں کہ جو اسے
دوست رکھے گا تو یقیناً وہ اسکو گمراہ کر دے گا اور
راستہ دکھانے گا اسے دوزخ کے عذاب کا۔

كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ
يُضِلُّهُ وَ يَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ
السَّعِيرِ ﴿٤﴾

اے لوگوں اگر تم ہو شک میں مرنے کے بعد
جی اٹھنے میں تو یقیناً پیدا کیا ہم نے تلو مٹی
سے۔ پھر نطفہ سے۔ پھر خون کے لو تھڑے
سے۔ پھر بوٹی سے۔ جو کامل بھی ہے اور
ناقص بھی تاکہ ظاہر کر دیں تم پر (اپنی قدرت)
۔ اور ٹھہرانے رکھتے ہیں ہم رحموں میں جنکو
چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک پھر تلو نکالتے
ہیں بچہ کی صورت۔ پھر تم پہنچتے ہو اپنی جوانی کو
۔ اور تم میں وہ ہے جو مر جاتا ہے اور تم میں وہ
ہے جو لوٹایا جاتا ہے خراب عمر کی طرف تاکہ نہ
جانے وہ جاننے کے بعد بہت کچھ۔ اور تو دیکھتا
ہے زمین کو کہ خشک پڑی ہے پھر جب ہم
برساتے ہیں اس پر مینہ تو وہ شاداب ہو جاتی اور

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ
مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن
تُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن
عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مَّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ
وَ غَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِئُبَيِّنَ لَكُمْ وَ نُقَرِّ
فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ
مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ
لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّىٰ
وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ
لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا
وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا
عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَّتْ

وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

ابھرتی ہے اور اگاتی ہے ہر قسم کی بارونق چیز۔

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنََّّهُ يُمِيزُ
الْمَوْتَىٰ وَأَنََّّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾

یہ اس لئے کہ اللہ ہی حق ہے۔ اور یہ کہ وہ
زندہ کر دیتا ہے مردوں کو۔ اور یہ کہ وہ ہر چیز پر
قادر ہے۔

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا
وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٧﴾

اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے۔ نہیں کچھ
شک اس میں۔ اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا انکو جو
قبروں میں ہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ
عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴿٨﴾

اور لوگوں میں وہ بھی ہے جو جھگڑتا ہے اللہ
کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت
کے اور بغیر کتاب روشن کے۔

ثَانِي عَطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَ نُذِيقُهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٩﴾

موڑے ہوئے اپنی گردن تاکہ گمراہ کر دے
(لوگوں کو) اللہ کے رستے سے۔ اس کے
لئے دنیا میں ذلت ہے۔ اور چکھائیں گے ہم
اسے قیامت کے دن عذاب جلتی آگ کا۔

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ وَ أَنَّ اللَّهَ
لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿١٠﴾

یہ اس سبب جو آگے بھیجا تیرے ہاتھوں نے
اور یقیناً اللہ نہیں ظلم کرے نیا والا اپنے بندوں پر۔

اور لوگوں میں وہ بھی ہے جو عبادت کرتا ہے
 اللہ کی کنارے پر ہو کر۔ پھر اگر پہنچے اسکو کوئی
 فائدہ تو مطمئن ہو جائے اسکے سبب۔ اور اگر
 آپڑے اسپر کوئی آفت تو لوٹ جائے منہ کے
 بل۔ نقصان اٹھایا اس نے دنیا میں اور آخرت
 میں بھی۔ یہی ہے وہ کھلا نقصان۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ
 حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ
 وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ
 وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ
 ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١١﴾

پکارتا ہے وہ سوائے اللہ کے اس کو جو نہ اسے
 نقصان پہنچائے اور جو نہ اسے فائدہ دے
 سکے۔ یہی ہے وہ گمراہی اتھا درجے کی۔

يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْصُرُهُ
 وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَلُ
 الْبَعِيدُ ﴿١٢﴾

پکارتا ہے وہ اسکو جسکا نقصان زیادہ قریب ہے
 اسکے فائدے سے۔ بیشک برا ہے ایسا دوست
 اور بیشک برا ہے ایسا ساتھی۔

يَدْعُوا لِمَنْ ضُرَّةَ أَقْرَبٍ مِنْ نَفْعِهِ
 لِبَيْسِ الْمَوْلَىٰ وَ لِبَيْسِ الْعَشِيرَةِ ﴿١٣﴾

یقیناً اللہ داخل کرے گا انکو جو ایمان لائے اور
 کرتے رہے نیک اعمال بہشتوں میں بہہ رہی
 میں جنکے نیچے نہریں۔ یقیناً اللہ کرتا ہے جو
 چاہتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿١٤﴾

جو یہ گمان کرتا ہو کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اسکی

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي

اللہ دنیا میں اور آخرت میں تو اسکو چاہیے کہ
باندھے ایک رسی آسمان تک پھر کاٹ ڈالے
پھر دیکھے کہ آیا دور کر دیتی ہے اسکی یہ تدبیر اس
چیز کو جو اسے غصہ دلاتی ہے۔

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ
إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ
هَلْ يُدْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ ﴿١٥﴾

اور اسی طرح نازل کیا ہے ہم نے اس
(قرآن) کو کھلی نشانیوں (کی صورت)۔ اور
یقیناً اللہ ہدایت دیتا ہے جسکو چاہتا ہے۔

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ
اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ﴿١٦﴾

یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی
ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور وہ
لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ یقیناً اللہ فیصلہ
کردے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔
یقیناً اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا
وَالصَّابِغِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ
وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا^ط إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾

کیا نہیں تو نے دیکھا کہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کچھ
ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور
سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور
چوپائے اور بہت سے انسانوں میں سے۔ اور
بہت سے ثابت ہو چکا ہے جن پر عذاب۔ اور

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي
السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَ
الْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالذَّوَابُّ وَكَثِيرٌ

وہ جسے ذلیل کرے اللہ تو نہیں ہے اسکے لئے کوئی عزت دینے والا۔ بیشک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ (آیت مجہد)

مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ
وَمَنْ يُّهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ
إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

یہ دو ایک دوسرے کے دشمن فریق جھگرتے ہیں اپنے رب کے بارے میں۔ تو وہ جہنوں نے کفر کیا تراشے جائیں گے انکے لئے لباس آگ کے۔ ڈالا جائے گا ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی۔

هَذَانِ خَصْمِينَ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ
فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ
ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُّصَبُّ مِنْ فَوْقِ
رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ

گل جائیں گی اس سے جو کچھ ہے ان کے پیٹوں کے اندر اور کھالیں۔

يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ
وَالْجُلُودُ

اور ان کیلئے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے۔

وَلَهُمْ مَّقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ

جب بھی وہ چاہیں گے کہ نکل جائیں اس میں سے رنج و تکلیف کی وجہ سے تو لوٹا دیئے جائیں گے اسی میں۔ اور چکھتے رہو عذاب جلنے کا۔

كَلِمًا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

یقیناً اللہ داخل کرے گا انکو جو ایمان لائے اور

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

کرتے رہے نیک اعمال بہشتوں میں بہ رہی ہیں جتنکے نیچے نہریں۔ پہنائے جائیں گے انکو وہاں کنگن سونے کے اور موتی۔ اور ان کا لباس وہاں ریشمی ہوگا۔

الصَّلٰحٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ يُجْلَوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ
ذَهَبٍ وَّ لَوْلًا وَّ لِبَاسُهُمْ فِيْهَا
خَرِيْرٌ ﴿٢٣﴾

اور ہدایت دی گئی انکو پاکیزہ بات کی طرف اور ہدایت دی گئی انکو اس راستہ کی طرف جو قابل تعریف (اللہ) کا ہے۔

وَّ هُدُوًا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ
وَّ هُدُوًا اِلَى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ ﴿٢٤﴾

یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور مسجد الحرام سے جسے ہم نے بنایا ہے لوگوں کے لئے۔ برابر میں مقامی لوگ اسمیں اور باہر سے آنے والے۔ اور جو ارادہ کریگا اسمیں گمراہی کا ظلم کے ساتھ تو ہم مزہ چکھائیں گے اسکو دردناک عذاب کا۔

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ يَصُدُّوْنَ عَنِ
سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
الَّذِيْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءًا الْعَاكِفُ
فِيْهِ وَ الْبَادِ وَ مَنْ يُرِدْ فِيْهِ
بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابِ
الْاَلِيْمِ ﴿٢٥﴾

اور جب مقرر کر دی ہم نے ابراہیم کے لئے جگہ اس گھر کی کہ شریک نہ کرنا میرے ساتھ کسی چیز کو اور پاک رکھنا میرے گھر کو طواف

وَ اِذْ بَوَّأْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ
اَنْ لَا تُشْرِكَ بِىْ شَيْئًا وَّ طَهَّرْ
بَيْتِيْ لِلطَّآئِفِيْنَ وَ الْقَائِمِيْنَ وَ

الرُّكْعِ السُّجُودِ ﴿٢٦﴾

کرنے والوں کے لئے اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں سجد کرنے والوں کے لئے۔

وَ اٰذِنٌ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾

اور اعلان کردو لوگوں میں حج کا کہ وہ آئیں تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر چلے آتے ہوں جو تمام دور دراز رستوں سے۔

تاکہ حاضر ہوں ان فوائد پر جو ان کے لئے ہیں۔ اور لیں اللہ کا نام ان دنوں میں جو مقرر ہیں ان پر جو اس نے انہیں دیے ہیں مویشی چوپایوں میں سے۔ تو کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ خستہ حال ضرورت مند کو۔

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِىْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَةٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطِعُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ ﴿٢٨﴾

پھر چاہیے کہ دور کریں اپنا میل کچیل اور پوری کریں اپنی منتیں اور طواف کریں اس قدیم گھر کا۔

ثُمَّ لِيَقْضُوْا تَفَتُّهُمُ وَاَلِيُوْفُوْا نُدُوْرَهُمْ وَاَلِيَطَّوْفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿٢٩﴾

یہ (حکم ہے)۔ اور جو تعظیم کرے اللہ کی حرمتوں کی تو وہ بہتر ہے اسکے حق میں اسکے رب کے نزدیک۔ اور حلال کر دیئے گئے ہیں تمہارے لئے مویشی سوائے انکے جو پڑھ

ذٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لّٰهٖ عِنْدَ رَبِّهٖ ۗ وَاَحَلَّتْ لَكُمْ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ

کر سناے جاتے ہیں تم کو۔ تو پرہیز کرو ناپاکی سے بتوں کی اور پرہیز کرو جھوٹی بات سے۔

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ
وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٤﴾

یکسو ہو کر اللہ کے لئے۔ نہ شریک ٹھہرا کر اسکے ساتھ۔ اور جو شریک مقرر کرے اللہ کے ساتھ تو وہ گویا ایسا ہے جیسے گر پڑے آسمان سے پھر اچک لے جائیں اسکو پرندے یا اڑا کر پھینک دے اسے ہوا کسی دور کی جگہ۔

حَنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ
السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ
الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٥﴾

یہ (حکم ہے) اور جو تعظیم کرے اللہ کی نشانیوں کی تو یقیناً یہ ہے دلوں کا تقویٰ۔

ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ
فَأَنَّهَا مِنَ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٦﴾

تمہارے لئے ان میں فائدے ہیں ایک وقت مقرر تک پھر انکے ذبح ہونے کی جگہ ہے اس قدیم گھر کے پاس۔

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
ثُمَّ يَحِلُّهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٧﴾

اور ہر ایک امت کے لئے مقرر کر دیا ہے ہم نے قربانی کا طریقہ تاکہ وہ لیں اللہ کا نام انپر جو اس نے انکو دیئے ہیں چوپائے مویشیوں میں سے۔ سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو اسی کے فرمانبردار ہو جاؤ۔ اور خوشخبری سنا دو عاجزی

وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيذْكُرُوا
اسْمَ اللَّهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ
بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ
وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَ بَشِّرِ

کرنے والوں کو۔

وہ لوگ کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا تو ڈر جاتے ہیں انکے دل اور صبر کرتے ہیں اس پر جو مصیبت پڑتی ہے ان پر اور قائم کرتے ہیں نماز۔ اور اسمیں سے جو ہم نے انکو عطا فرمایا ہے خرچ کرتے ہیں۔

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ
وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ
وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَهُمَا رَزَقْنَهُمْ
يُنْفِقُونَ ۝۲۵

اور قربانی کے اونٹ کہ مقرر کیا ہے ہم نے انکو تمہارے لئے اللہ کے نشانیوں میں سے۔ تمہارے لئے ان میں فائدے ہیں۔ سو لو اللہ کا نام ان پر قطار باندھ کر۔ پھر جب وہ گر پڑیں پہلو کے بل تو کھاؤ ان میں سے اور کھلاؤ قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو۔ اسی طرح زیر فرمان کر دیا ہے ہم نے انکو تمہارے لئے تاکہ تم شکر کرو۔

وَالْبَدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ
اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَادْكُرُوا
اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا
وَجِبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا
وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ
سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ۝۲۶

نہیں پہنچتا ہے اللہ تک انکا گوشت اور نہ انکا خون۔ بلکہ پہنچتا ہے اس تک تقویٰ تمہارا۔ اسی طرح اس نے زیر فرمان کر دیا ہے انکو تمہارے لئے تاکہ تم بڑائی سے یاد کرو اللہ کو

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤُهَا
وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ
سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا

هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٧﴾

اسپر جو ہدایت بخشی اس نے تمکو۔ اور خوشخبری
سنا دو نیکی کرنیوالوں کو۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٢٨﴾

بیشک اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف
سے جو ایمان لائے۔ بیشک اللہ دوست نہیں
رکھتا کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو۔

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا
وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن سے
جنگ کی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے۔
اور یقیناً اللہ انکی مدد پر ہر طرح قادر ہے۔

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
بِبَعْضٍ لَهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ
وَصَلَوَاتٌ وَ مَسْجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا
اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ
مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٣٠﴾

یہ وہ لوگ ہیں جو نکال دیئے گئے اپنے گھروں
سے ناحق۔ سوائے اسکے کہ یہ کہتے ہیں ہمارا
رب اللہ ہے۔ اور اگر نہ دفع کرتا رہتا اللہ
انسانوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعہ تو
ضرور مسمار کی جا چکی ہوتیں خانقاہیں اور گرجے اور
عبادت خانے اور مسجدیں ذکر کیا جاتا ہے جن
میں اللہ کے نام کا کثرت سے۔ اور ضرور مدد
کرتا ہے اللہ انکی جو مدد کرتے ہیں اسکی۔
بیشک اللہ بہت طاقتور ہے غالب ہے۔

یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انکو حکومت دیں زمین میں تو قائم کریں نماز اور ادا کریں زکوٰۃ اور حکم دیں نیکی کا اور منع کریں برائی سے۔ اور اللہ کے اختیار میں ہے انجام سب کاموں کا۔

الَّذِينَ اِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ
اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ
الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ ﴿٤١﴾

اور اگر یہ جھٹلاتے ہیں تمکو تو یقیناً جھٹلا چکی ہیں ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود۔

وَ اِنْ يُكذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ
قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَّعَادٌ وَّثَمُودٌ ﴿٤٢﴾

اور قوم ابراہیم اور قوم لوط۔

وَ قَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَّ قَوْمِ لُوطٍ ﴿٤٣﴾

اور مدین والے اور جھٹلایا گیا موسیٰ کو۔ تو مہلت دی میں نے کافروں کو پھر پکڑ لیا میں نے انکو۔ تو کیسا تھا میرے انکار (کا انجام)۔

وَ اَصْحٰبُ مَدْيَنَ وَّ كَذَّبَ مُوسٰى
فَاَمَلَيْتُ لِّلْكَافِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ
فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرٍ ﴿٤٤﴾

تو کتنی ہی بستیاں ہیں ہلاک کر ڈالا ہم نے جنکو اور وہ نافرمان تھیں۔ سو وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر۔ اور بہت سے کنوئیں بیکار اور بہت سے مضبوط محل (ویران پڑے ہیں)۔

فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَ هِيَ
ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا
وَبُئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّ قَصْرِ مَّشِيْدٍ ﴿٤٥﴾

سو کیا نہیں چلے پھرے یہ زمین میں تاکہ

اَفَلَمْ يَسْبُرُوْا فِي الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ

ہوجاتے ان کے ایسے دل کہ سمجھ سکتے ان سے یا ایسے کان کہ سن سکتے ان سے۔ پس درحقیقت نہیں اندھی ہوتیں آنکھیں بلکہ اندھے ہوجاتے ہیں دل جو سینوں میں ہیں۔

لَهُمْ قُلُوبٌ يَّعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَّسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾

اور یہ جلدی کر رہے ہیں تم سے عذاب کے لئے اور ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کے۔ اور بیشک ایک دن تمہارے رب کے نزدیک ایک ہزار سال کے برابر ہے اس سے جو تم گنتے ہو۔

وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾

اور کتنی ہی بستیاں تمہیں مہلت دیتا رہا میں انکو جبکہ وہ ظالم تھیں۔ پھر میں نے پکڑ لیا انکو۔ اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمَلَتْ لَهَا وَ هِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْنَاهَا وَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿٤٨﴾

کہدو کہ اے لوگوں درحقیقت میں تمکو خبردار کرنے والا ہوں واضح طور پر۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٩﴾

تو جو لوگ ایمان لائے اور کئے انہوں نے نیک عمل انکے لئے ہے مغفرت اور رزق عزت کا۔

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥٠﴾

اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کو
نیچا دکھانے کی ایسے ہی لوگ اہل دوزخ ہیں۔

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٥١﴾

اور نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول
اور نہ نبی مگر جب اس نے آرزو کی تو ڈالا
شیطان نے اسکی آرزو میں (وسوسہ)۔ تو دور کر
دیتا ہے اللہ اسکو جو ڈالتا ہے شیطان۔ پھر
مضبوط کر دیتا ہے اللہ اپنی آیتوں کو۔ اور اللہ
علم والا ہے حکمت والا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ
وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى الْقَى
الشَّيْطٰنُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا
يُلْقِي الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ آيَتِهِ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٢﴾

تاکہ بنا دے وہ اسکو جو (وسوسہ) ڈالتا ہے شیطان
آزمائش ان لوگوں کے لئے جنکے دلوں میں
بیماری ہے اور سخت میں جنکے دل۔ اور
بیشک ظالم لوگ مخالفت میں دور جا پڑے۔

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً
لِّلَّذِيْنَ فِي قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ
وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ وَإِنَّ الظَّٰلِمِيْنَ
لَفِي شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿٥٣﴾

اور تاکہ جان لیں وہ جن کو عطا ہوا ہے علم کہ وہ
حق ہے تیرے رب کی طرف سے تو وہ ایمان
لائیں اس پر۔ پس عاجزی کریں اس کے آگے
انکے دل۔ اور یقیناً اللہ ہدایت دیتا ہے ان
لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اس راستے کی

وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ أَنَّهٗ
ٱلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُوْمِنُوْا بِهِ
فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ وَإِنَّ اللّٰهَ
لَهَادٍ ٱلَّذِيْنَ أٰمَنُوْا إِلَى صِرَاطٍ

طرف جو سیدھا ہے۔

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ
مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً
أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٥٥﴾

اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا
شک میں اسکی طرف سے یہاں تک کہ
آجائے ان پر قیامت کی گھڑی ناگماں یا آواقع
ہو ان پر عذاب ایک نامبارک دن کا۔

أَلَمْ لِكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ
فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴿٥٦﴾

بادشاہی اس دن اللہ کی ہوگی۔ وہ فیصلہ کر
دے گا ان کے درمیان۔ تو وہ لوگ جو ایمان
لائے اور کرتے رہے نیک اعمال (وہ ہوں
گے) نعمت کے باغوں میں۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥٧﴾

اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلاتے رہے
ہماری آیتوں کو تو یہی لوگ ہیں جن کے لئے
ہوگا عذاب ذلیل کرنے والا۔

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ
رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ
الرَّزُقِينَ ﴿٥٨﴾

اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں
پھر قتل ہوئے یا مر گئے۔ یقیناً عطا فرمانے گا
ان کو اللہ عمدہ رزق۔ اور بیشک اللہ ہی ہے
بہترین رزق دینے والا ہے۔

ضرور داخل کرے گا وہ انکو ایسے مقام میں وہ
پسند کریں گے جسے۔ اور بیشک اللہ جاننے والا
ہے بردبار ہے۔

لَيَدْخِلْنَهُمْ مُدْخَلَ رِضْوَانِهِ وَإِنَّ
اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥١﴾

یہ (توڑے ہوا) اور جس نے ایذا دی اتنی ہی
جتنی ایذا دی گئی اس کو پھر زیادتی کی گئی اس پر
تو ضرور مدد کرے گا اسکی اللہ۔ بیشک اللہ
معاف کرنے والا ہے بخشنے والا ہے۔

ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا
عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٥٢﴾

یہ اس لئے کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن
میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور
بیشک اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے۔

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُوَجِّهُُ الْيَلَّ فِي
النَّهَارِ وَ يُوَجِّهُُ النَّهَارَ فِي الْيَلِّ
وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٥٣﴾

یہ اس لئے کہ اللہ ہی برحق ہے اور یہ کہ جن کو
یہ پکارتے ہیں اسکے سوا وہ باطل ہے اور یہ
کہ اللہ ہی اونچی شان والا ہے بڑا ہے۔

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا
يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٥٤﴾

کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اللہ نے برسایا آسمان
سے پانی۔ تو ہو گئی زمین سرسبز۔ بیشک اللہ
مہربان ہے خبردار ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً إِنَّ
اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٥٥﴾

اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور بیشک اللہ ہی بے نیاز ہے قابل ستائش ہے۔

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٤٤﴾

کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لئے جو کچھ زمین میں ہے۔ اور کشتی چلتی ہے سمندر میں اسی کے حکم سے۔ اور وہ تھامے رہتا ہے آسمان کو اس سے کہ گر پڑے زمین پر مگر اس کے حکم سے۔ بیشک اللہ لوگوں پر شفقت کرنے والا مہربان ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٤٥﴾

اور وہ ہی ہے جس نے حیات بخشی تمہیں۔ پھر موت دیتا ہے تمہیں۔ پھر زندہ کرے گا تمہیں۔ بیشک انسان بڑا ناشکرا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٤٦﴾

ہر امت کے لئے ہم نے مقرر کر دیا ہے عبادت کا طریقہ کہ وہ بندگی کرتے ہیں اسی طرح۔ تو نہ کریں یہ جھگڑا تم سے اس معاملے میں۔ اور بلا تے رہو تم اپنے رب کی طرف۔ بیشک تم اس راستے پر ہو جو سیدھا ہے۔

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعَنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٧﴾

اور اگر یہ جھگڑا کریں تم سے تو کہدو کہ اللہ خوب واقف ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔

وَإِنْ جَدَلُواكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٣٨﴾

اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا تم جن میں اختلاف کرتے ہو۔

اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٣٩﴾

کیا نہیں جانتا تو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے۔ بیشک یہ سب کتاب میں ہے۔ بیشک یہ اللہ کے لئے آسان ہے۔

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٤٠﴾

اور یہ عبادت کرتے ہیں سوا اللہ کے ایسی چیزوں کی نہیں نازل فرمائی اس نے جنکی کوئی سند اور وہ چیزیں کہ نہیں ہے انکے پاس جنکا کوئی علم۔ اور نہیں ہوگا ظالموں کا کوئی مددگار۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٤١﴾

اور جب تلاوت کی جاتی ہیں انکے سامنے ہماری واضح آیات تو پہچان لوگے تم انکے چہروں پر جنہوں نے کفر کیا صاف ناگواری۔ ایسا لگتا ہے کہ حملہ کر دیں گے ان پر جو تلاوت کرتے ہیں انکے سامنے ہماری آیات۔ کہدو کیا

وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قُلْ أَفَأَنْبِيئُكُمْ

میں بتاؤں تکو زیادہ بری چیز اس سے بھی۔ وہ آگ ہے۔ وعدہ کر رکھا ہے جس کا اللہ نے ان سے جہنوں نے کفر کیا اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔

بَشَرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَ بئس
المصيرُ ﴿٧٢﴾

اے لوگوں بیان کی جاتی ہے ایک مثال تو غور سے سنو اسے۔ یقیناً وہ جن کو پکارتے ہو تم اللہ کے سوا ہرگز نہیں پیدا کر سکتے وہ ایک مکھی بھی اگرچہ جمع ہو جائیں وہ سب اس کے لئے۔ اور اگر چھین لے جائے ان سے مکھی کوئی چیز تو نہیں بھڑا سکتے وہ اس سے۔ کمزور ہیں مدد مانگنے والے اور وہ جن سے مدد طلب جائے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلُ فَاسْتَمِعُوا
لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا
لَهُ وَإِنْ يَسْأَلُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا
يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبِ
وَالْمَطْلُوبِ ﴿٧٣﴾

نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جیسا کہ حق ہے اسکی قدر کا۔ بیشک اللہ زبردست غالب ہے۔

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ
لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾

اللہ منتخب کر لیتا ہے فرشتوں میں سے پیغام رساں اور انسانوں میں سے۔ بیشک اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے۔

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا
وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾

جانتا ہے وہ جو انکے آگے ہے اور جو انکے پیچھے ہے اور اللہ کی طرف ہے رجوع تمام کاموں کا۔

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٦﴾

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرتے رہو اپنے رب کی اور کرو نیک کام تاکہ تم فلاح پاؤ۔ (آیت سجدہ)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا
وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا
الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

اور جہاد کرو اللہ (کی راہ) میں۔ عیسا حق ہے جہاد کرنے کا۔ اس نے منتخب کیا ہے تمکو اور نہیں رکھی تم پر دین میں کوئی تنگی۔ دین تمہارے باپ ابراہیم کا (پسند کیا)۔ وہ (اللہ) ہے جس نے رکھا تمہارا نام مسلم۔ پہلے بھی اور اس (کتاب) میں بھی تاکہ ہو جانے رسول گواہ تمہارے بارے میں۔ اور ہو جاؤ تم گواہ لوگوں پر۔ سو قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ اور پکڑے رہو اللہ (کے دین) کو۔ وہی تمہارا دوست ہے سو کیا خوب دوست ہے اور کیا خوب مددگار ہے۔

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ
اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ
إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ
قَبْلُ وَ فِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ
شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ
عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ
مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ